

آدَبًا لَا خَاْكُمْ (الحدیث)

آخْرَى سَفَرٍ

(سکرات سے تین فیں تک)

سکرات، غسل، کفن، دفن، ما بعد دفن جملہ مسائل سنت و آثار صحابہ کی روشنی میں

تألیف

مولانا محمد عبدالرحمن مظاہری حل مقیم جده (سعودی عرب)

(خلیفہ مجاز حضرت مجی اللہ مولانا الشاہ ابراہیم الحنفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

فہرستِ عنوان

عنوان	عنوان	عنوان	
صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	
(۳۰)	نماز جنازے کا طریقہ	(۲)	نماز جنازے کا طریقہ
(۳۲)	اگر ایک وقت میں کئی جنازے ہوں	(۱۵)	اگر ایک وقت میں کئی جنازے ہوں
(۳۳)	جو تا پہنے نمازو ادا کرنا	(۱۵)	جو تا پہنے نمازو ادا کرنا
(۳۳)	نماز جنازے کی امامت	(۱۷)	نماز جنازے کی امامت
(۳۴)	قبر کے مسائل	(۱۷)	قبر کے مسائل
(۳۶)	توفین کے مسائل	(۱۹)	توفین کے مسائل
(۳۸)	ما بعد دفن کے مسائل	(۲۱)	ما بعد دفن کے مسائل
(۳۹)	زیارت قبور کا صحیح طریقہ	(۲۳)	زیارت قبور کا صحیح طریقہ
(۲۱)	تفرقات	(۲۵)	تفرقات
(۲۳)	آئندہ خوش نصیب	(۲۷)	آئندہ خوش نصیب
(۲۴)	کتاب کے مأخذ	(۲۸)	کتاب کے مأخذ
(۲۵)	لحاظات فکر	(۲۸)	لحاظات فکر
(۲۶)	ایک عبرت، ایک نصیحت	(۳۰)	ایک عبرت، ایک نصیحت

آخری سفر

مقدمہ

الموت

موت فنا یا گم ہو جانے کا نام نہیں ہے جیسا کہ جاہلی مذاہب نے سمجھا، چونکہ انہوں نے اس دنیا میں کسی مرنے والے کو دوبارہ آتے نہیں دیکھا بس یقین کر لیا کہ موت فنا یا گم ہو جانے کا نام ہے۔ یہ ان کی فریب نظر اور لغزش فکر کا نتیجہ تھا۔

اسلام نے موت کو حیات کا پیش خیمه قرار دیا ہے بلکہ حقیقی حیات، جس کے بعد موت نہیں ہوگی۔ موت دراصل ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے، فنا یا گم ہو جانا مراد نہیں، وہی کے ایک نقشبندی بزرگ مرتضیٰ مظہر جان جان اسلام کی اس حقیقت کو نہایت سادگی سے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا موت کے بعد آخرت کی اس دائمی زندگی کو اسلام نے ”یوم الآخرة“ کہا ہے آخرت پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جس طرح اللہ اور اُسکے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، بغیر اسکے اسلام و ایمان۔

مرنے والے کے قریب اُسکی حد نظر تک قطاروں میں بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت عزرا نیل نازل ہوتے ہیں اور مرنے والے کے قریب بیٹھ کر یہ خوشخبری دیتے ہیں۔

”اے نفسِ مطمئناً (خوش و خرم روح) اللہ کی رحمت و مغفرت کی طرف کو پجو“
اسکے بعد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اس خوشخبری پر مرنے والے کی روح نہایت پُر سکون حالت میں خوشی و مسرت کیسا تھا اپنے جسم کو اس طرح چھوڑ دیتی ہے جس طرح پانی کا آخری قطرہ اپنے برتن سے نکل پڑتا ہے (جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی) موجودہ فرشتے اُس پاک روح کو ایک لمحہ میں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور جنت کے کفن اور خوبصورت میں بسادیتے ہیں، اسوقت میت کے جسم سے ایسی دل آویز خوبصورتی ہے جسکی نظیر روئے زمین پر ممکن نہیں۔ فرشتے اُس پاک روح کو لیکر آسمان کی طرف غردونج کرتے ہیں راہ میں فرشتوں کے جس گروہ پر بھی انکا گزر ہوتا ہے وہ دریافت کرتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟

فرشتے اُسکے اعلیٰ القاب کیسا تھا کہتے ہیں کہ یہ فلان بن فلان ہے۔ پھر آسمان کے پہلے دروازے پر پہنچ کر آواز دیتے ہیں اندر کے فرشتے آسمان کا دروازہ کھول کر اُس پاک روح کا استقبال کرتے ہیں اس طرح ہر آسمان پر یہی معاملہ ہوا کرتا ہے ہر آسمان کے بزرگ فرشتے ایسے

مقبول نہیں، مرنے کے بعد اسی دوسری زندگی ”یوم الآخرة“ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور خود موت کا آغاز سکرات سے، اس طرح یہ حقیقت سامنے آگئی کہ ”سکرات“ پر آخرت کا آغاز ہونے لگا۔ موت کی یہ ”سکرات“ زندگی کا وہ عظیم و نازک لمحہ ہے جس میں انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوا کرتا ہے، ایمان کی حالت پر موت آئی تو اُس عالم میں فلاج پا گیا، ورنہ دائی ذلت و عذاب سے دوچار ہو گیا۔ اللہمَ احفظنا مِنْهُ

حدیث شریف میں موت کی اس تفصیل کو اس طرح بیان کیا گیا، حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کیسا تھا ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک تھے جب قبرستان پہنچ اسوقت ائمی قبر تیار نہ تھی، رسول اللہ ﷺ انتظار میں قبر کے قریب تشریف فرمادی گئے ہم سب بھی آپ کے اطراف بیٹھ گئے، سب پر خاموشی طاری تھی آپ کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھوچ رہے تھے۔ اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا ”عذاب قبر سے پناہ طلب کرو“ یہ کلمات آپ نے تین مرتبہ دھرائے پھر ارشاد فرمایا ”جب مومن کا آخری وقت ہوتا ہے تو فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے جن کے چہرے آفتاً مہتاب کی طرح روشن اور خوبصورت ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنت کا کفن اور وہاں کی خوبصورتیں ہوا کرتی ہیں وہ

آخری سفر

دوسرے آسمان تک اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ پاک روح ساتوں آسمان پر پہنچ جاتی ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نام اعلیٰ علیین (۱) (نیک روحوں کی عارضی قیام گاہ) میں لکھ دو اور اسکو پھر زمین پر لیجاؤ، میں نے انھیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں انھیں جانا ہے اور اُسی سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اسکے بعد اس پاک روح کو اسکے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے (اس کامیاب سند کو لیکر وہ پاک روح اپنی قبر میں آجائی ہے) یہاں دو فرشتے آتے ہیں اور میت سے سوال کرتے ہیں۔

”تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ ان شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جن کو اللہ نے رسول بنایا کر بھیجا تھا؟“

”مذکورہ سوالات پر میت نہایت اطمینان و بشاشت سے جواب دیتی ہے۔“

”میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔“

”اس جواب پر فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟“

”میت کہتی ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور اسکی تصدیق کی ہے اور اسپر میرا ایمان ہے۔“

(۱) شاہ عبدال قادر محدث لکھتے ہیں کہ نیک اعمال ناموں کا دفتر اور نیک روحوں کی قیامگاہ ہے، بعض سلف نے کہا ہے کہ یہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے (موضع القرآن)

آخری سفر

۸

اس وقت آسمان سے قبر میں ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے پچ کہا، قبر میں جنت کا فرش بچھا دو اور اسکو جنت کا لباس پہنادو اور اسکی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو چنانچہ قبر میں اُس دروازے سے جنت کی روح و ریحان اور رُوح پرور ہوائیں آئے لگتی ہیں اور اسکی قبر کو حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اسکے بعد ایک خوبصورت خوشبوؤں میں بسا انسان اچانک قبر میں آ جاتا ہے اور میت کو مبارکبادی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دُنیا کی زندگی میں تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ آج پورا ہوا۔

میت پوچھتی ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔

اس عیش و مسرت میں میت کہتی ہے اے میرے پروردگار قیامت جلد قائم کر دیجیے تاکہ میں جنت میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کر لوں (اسکو کہا جاتا ہے کہ انتظار کرو)۔

اب اسپر میٹھی نیند ڈال دی جاتی ہے وہ تھکی ماندی و لہن کی طرح سُو جاتا ہے جسکو اسکے محبوب کے علاوہ اور کوئی بیدار نہیں کرتا۔ (قیامت تک اسی حالت میں رہیگا)“

مومن کی اس تفصیل کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کافر و منافق کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی:

۹ آخری سفر

کافران کی دنیا کا جب آخری وقت اور آخرت کا ابتدائی وقت ہوتا ہے تو آسمان سے کام کوئی بد صورت خوفناک فرشتے اترتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نثار کا کفن ہوتا ہے۔ وہ بھی مرنے والے کے اطراف حذر نظر تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملکِ الموت اترتے ہیں اور مرنے والے کے سرابنے پیٹھ کر اس طرح خطاب کرتے ہیں۔ ”اے خبیث روح اپنے رب کے غضب و قهر کی طرف چل۔“

اس وقت کافر کی روح اپنے بدن کے ذرہ ذرہ سے چھٹ جاتی ہے نکنا نہیں چاہتی، ملکِ الموت اُسکی روح کو اسکے بدن سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جس طرح خاردار سلاح بل کھائی اون سے کھینچ لی جاتی ہے، انکے اس عمل سے کافر کی جوڑیں اور رگیں پھورا پھورا ہو جاتی ہیں، موجود فرشتے اس نایاک روح کو آنا فاناً نثار کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اس وقت نایاک روح سے ایسی سڑی بدبو نکلتی ہے جو کسی مُردار جانور کے سر جانے کے بعد پیدا ہوا کرتی ہے۔

سب فرشتے اس نایاک روح کو لیکر آسمان کی طرف عروج کرتے ہیں راہ میں فرشتوں کا جو بھی گروہ ملتا ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں اسکے بُرے اور گندے القاب سے اسکا نام لیتے ہیں، پھر پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ

۱۰ آخری سفر

کھٹکھٹاتے ہیں لیکن دروازہ کھولا نہیں جاتا۔

رسول اللہ ﷺ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَااءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمْمِ الْخِيَاطِ۔ آلایہ (الاعراف۔ آیہ ۲۰) ترجمہ: کھولے نہ یہاں تک کیلئے آسمان کے دروازے اور وہ نہ داخل ہو نگے جنت میں یہاں تک گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں (یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے)۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس نایاک روح کا نام سجین (۱) (بد کاروں کی قیامگاہ) میں لکھدا سکے بعد اُسکی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ آیہ (الحج۔ آیہ ۳۱)

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے

(۱) بدرجہوں کے نامہ اعمال اور عارضی قیامگاہ کا مقام ہے جو ساتوں زمین سے پیچے ہے۔ (موقع القرآن)

آخری سفر

گر پڑا پھر پندوں نے اسکی بو شیاں نوج لیں یا اسکو ہوانے کی دور رواز جگہ میں لے جا پڑا ہو۔

آخر اسکی نایاک روح اسکے نایاک جسم میں لوٹا دی جاتی ہے و فرشتے اسکی قبر میں اترتے ہیں اور اسکو آٹھا کر بیٹھادیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟

ہر سوال کے جواب میں وہ نایاک مردہ کہتا ہے ہائے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔

اپر آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کی قبر میں آگ کا بستر لگا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو پھر جہنم کی گرمی اور اسکے جھلسادیے والی ہوا میں قبر میں آنے لگتی ہیں اور قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے جس سے اسکی پسلیاں ایک دوسرے میں ھس جاتی ہیں اس کے بعد ایک برصورت وحشت ناک چہرے والا قبر میں داخل ہوتا ہے اور اس نایاک مردے سے کہتا ہے جس دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا تو نے اس کامزہ چکھ لیا؟ مردہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟

کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔

اپر مردہ چھنے لگتا ہے اے میرے رب قیامت بُرپانہ کر، قیامت

آخری سفر

۱۲

بُرپانہ کر (کیونکہ اسکو قیامت کے بعد اسکے اصلی قیامگاہ جہنم میں جھوٹک دیا جاتا ہے)۔

(تبیہ الغافلین صفحہ ۱۶، ابواللیث السمرقندی)

حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان کو خواہ وہ نیک ہو یا بد، موت کی اس مذکورہ کیفیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے لیکن آخرت کی یہ پہلی رہ گزر بڑی کٹھن اور پر خطر ہے اگر کامیاب ہو گیا تو اسکے بعد آنے والی ہر منزل کامیابی سے گزر جاتی ہے۔

سیدنا عثمان بن عفانؓ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک وفعاً پکا گزر قبرستان پر ہوا اچانک آپ رونے لگے، لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ جنت اور جہنم کا ذکرتے ہیں لیکن آپکو رونا نہیں آتا، قبروں کو دیکھ کر روپڑتے ہیں؟

سیدنا عثمان غوثیؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنائے کہ انسان کی قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جو اس منزل سے خیر کیسا تھے گزر گیا بعد کی آنے والی ہر منزل آسان ہے اور اگر وہ اس پہلی منزل ہی میں پھنس گیا تو بعد کی آنے والی تمام منزلیں سخت ترین ہونگی۔ میں نہیں جانتا کہ میری یہ پہلی منزل کیسے گزر گئی؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر اور کوئی نہیں دیکھا۔“

اللَّهُمَّ ثِبْتَنَا بِاَنْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي
الْآخِرَةِ بِرِحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - آمِين

خادم الكتاب والسنّة
(محمد عبد الرحمن)

اختتام۔ مسجد الحرام مکہ المکرمه "اندرون مطاف"
۶ / ربیع الاول ۱۴۱۹ مطابق ۲۹ جولائی ۱۹۹۸

۱۳ آخری سفر

"محمد بن السمک" کو ایک قبرستان میں یہ کہتے سن گیا، لوگوں اور قبرستان کے
اس خاموش محل سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ معلوم نہیں آئیں کتنے مردے
شدید رنج و غم سے بے قرار ہیں۔

فقیر ابواللیث سمرقندی لکھتے ہیں جو شخص عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہے
اُسکو اپنی زندگی میں چار باتوں کی پابندی کرنی چاہئے اور دیگر چار سے پرہیز۔

۱۔ فرض نمازوں کی پابندی۔ ۲۔ صدقات و خیرات کرنا۔
۳۔ قرآن حکیم کی تلاوت۔ ۴۔ کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنا۔
یہ چار مذکورہ اعمال انسان کی قبر کو کشادہ اور پرمرونق کر دیتے ہیں۔

۱۔ جھوٹ بولنا۔ ۲۔ خیانت کرنا۔
۳۔ چغلی کرنا۔ ۴۔ پیشتاب سے احتیاط نہ کرنا۔
یہ چار باتیں عذاب قبر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

یہ مختصر رسالہ:-

جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسیں مرنے والے کی روائی کے طور
طریقے اور شرعی ہدایات مستند فقہی کتابوں سے جمع کر دیئے گئے ہیں جنکی
تفصیل متصل صفحہ پر موجود ہے۔ آج یہ رسالہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور کل
یہی آپ کا سفر نامہ بنے گا۔

اَن لِّمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ (الحدیث)

سَكَرَاتٌ

وَجَاءَنَّ سَكُرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ
اوْ تَحْقِيقَ کہ پہنچا بیہو شی موت کی، یہ وہ (چیز) ہے جس سے تو (ایے عاقل) پیدا کتا تھا
(الآیہ۔ حق آیت ۱۹)

(۱) سکرات کیا ہے؟

روح نکلنے سے پہلے کی وہ حالت جس میں انسان پر ایک بے قراری
و بیہو شی سی طاری ہو جاتی ہے یہ روح کے جسم سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اسکیں
مرنے والے کو سخت تکلیف ہوتی ہے اسی حالت کو ”عالیہ نَزَع“ جائز کیا
گئی کہا جاتا ہے۔

(۲) ہمارے نبی ﷺ کا عالم سکرات :-

اگر کسی کا دل پھرنہ ہو گیا ہو تو سکرات کی سختی کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے
کہ اللہ کے سب سے پیارے بندے اور وہ جنکی شفاعت ہماری بخشش کا سہارا

ہے ان پہنچی سکرات کا وقت آیا بے قراری اور بار بار غشی طاری ہونے لگی تو
سیدہ فاطمۃ الزہراءؑ یہ حالت دیکھنے سکتیں اور چیخ پڑیں وَاکِرَبُ ابْتَاهَ (ہائے
میرے اباکی بے قراری)، حضور ﷺ کو اس حالت میں بھی انہیں دلasse
دینا پڑا، فرمایا فاطمۃ تمہارے ابا آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہونگے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پھر جب وقت قریب آگیا تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا سہارا لیا اور
لیٹ گئے، حاضرین میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرؓ (سیدہ عائشہ صدیقہ کے
بھائی) کے ہاتھ میں مساوک تھی آپ نے مساوک کی طرف نظر جما کر دیکھا سیدہ
عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ آپ مساوک کرنا چاہتے ہیں، بھائی سے مساوک
لیکر اپنے دانتوں سے زم کیا اور خدمت اقدس ﷺ میں پیش کر دیا، آپ
نے بالکل تند رستوں کی طرح مساوک کی، اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا
وقت سہ پھر کا تھا سینے مبارک میں سانس کی گھڑ گھڑا ہٹ محسوس ہوتے رہی
انتنے میں لب مبارک پر حرکت پیدا ہوئی موجودہ حضرات نے یہ الفاظ سنئے ”
الصَّلُوٰةُ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ“ (نماذ اور ما تحت افراد، یعنی انکا
خاص خیال رکھو) اسکے علاوہ او زمیں فرمائی جنکی تفصیل کتب احادیث میں
موجود ہے۔ پاس ہی پانی کا بڑن تھا اسی میں بار بار اپنا دست مبارک ڈالتے اور
چہرے اقدس پر ملتے جاتے اور فرماتے ” اللَّهُمَّ هَوْنَ عَلَيَّ
سَكْرَاتُ الْمَوْتِ“ (اللَّهُمَّ مجھ پر موت کی سختی آسان فرمًا)، چادر بھی

أشهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ياصرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّد رَسُولُ اللہ، بار بار ہلکی آواز میں دُھراتے رہئے مرنے والے سے یہ نہ کہئے تم بھی پڑھو۔ یہ تلقین اس وقت تک جاری رکھیئے کہ مرنے والا اپنی زبان سے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ دے یا اشارہ سے پڑھنے کی تصدیق کر دے، پھر تلقین بند کر دیجئے۔ البتہ اگر اس نے اسکے بعد دُنیا کی کوئی بات کی یا اسکی زبان سے نکل گئی تو پھر دوبارہ کلمہ طیبہ کی تلقین مذکورہ طریقے پر کر دیجئے اصرار نہ کیجئے مقصد تو یہ ہے کہ اسکا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو جائے اس عمل کو تلقین میت کہتے ہیں۔

تلقین کلمہ کے علاوہ مرنے والے کے پاس حاضرین کا سورۃ "یسین" اور سورۃ "رَغْد" کا ہلکی آواز سے پڑھنا بھی مستحب ہے، یہ عمل موت کی طلبی کیلئے نہیں ہوتا بلکہ مرنے والے کی آسانی اور راحت کیلئے ہوتا ہے۔ (۱) جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ آخری وقت ہے، حاضرین کو دعا میں مشغول ہو جانا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسکو اسلام و ایمان پر قائم رکھے

(۱) سکرات کی حالت میں وقفہ و قفہ سے مرنے والے کے منہ میں پانی کے قطرات ڈالتے رہئے نزع کی شدت میں پیاس کا غلبہ ہوا کرتا ہے، احادیث میں یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ ایسے وقت شیطان مردود ٹھنڈا اور شیریں پانی پیش کرتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے اگر تم "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (یعنی میرے سوا اور کوئی معبود نہیں) ہو تو تمہیں یہ پانی پلا دوں گا؟ **تَعْوِرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّبِعَاهِ لِرَبِيعِ**۔ (مراتی الفلاح ص ۱۱۲)

اپنے منہ پر ڈالتے اور کبھی ہڑادیتے اتنے میں ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور تین دفعہ فرمایا "بَلِ الرَّفِيقِ الْأَغْلَى" ، "بَلِ الرَّفِيقِ الْأَغْلَى" ، "بَلِ الرَّفِيقِ الْأَغْلَى" (اب اور کوئی نہیں صرف رُشْ اعلیٰ درکار ہے) انہی کلمات پر دست مبارک گر پڑانگاہ میں ٹکلٹکی بندہ گئی اور روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئی، **فَصَلَوَاتُ رَبِّيْ وَ سَلَامَةُ عَلَيْهِ دَائِمًا أَبَدًا**۔

إِنَّ اللَّهَ وَ إِنَّا إِنَّنَا رَاجِعُونَ

(۳) سکرات کی پہچان ؟

عام طور پر اسکی پہچان یہی ہے کہ جسم کی تمام رگیں کھنچنے لگتی ہیں، ہاتھ پیر کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے، پیشانی کی کن پیاس اور بنے لگتی ہیں، رنگ بدل کر میا لاسا ہو جاتا ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہونٹ خشک، ہاتھ پیر سرداور بے حس ہونے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک یہی یا اس سے ملتے جلتے آثار جب دکھائی دیں تو سمجھ لجھئے کہ وقت "سکرات موت" کا ہے۔

اللَّهُ تَعَالَى هُمْ سب پر آسان فرمائے۔

(۴) مسائل سکرات:-

تلقین:- اس وقت کرنے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کیجئے اس طرح کہ اس کے قریب خود کلمہ شہادت

اور اس پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جب مرنے کی خبر ملے تو اللہم "اغفر لی
وَ لَهُ وَ أَغْفِنِنِی مِنْهُ عَقْبَنِی حَسَنَا" (یہ دعا دفن میت کے بعد بھی بڑی
موثر ہے)۔

تبیہ: - اگر جاں کنی کے عالم میں خدا نخواستہ کسی مسلمان کی زبان سے
عکفیا شرک کا کلمہ بھی نکل جائے تو اسکا کچھ بھی اعتبار نہیں کیا جائیگا کیونکہ اس
وقت اسکے ہوش و حواس بٹھانے نہیں ہیں اسکی تجدیز و تکفیر عام مسلمانوں کی
طرح ہو گی البتہ اسکی مغفرت کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی
چاہئے اور میت کی کسی بھی بُرائی کا اظہار نہ کرنا چاہئے، احادیث میں اس بات
کی سخت ممانعت آتی ہے مسلمان کے مرنے کے بعد اسکی بُرائی نہ کی جائے اور
نہ اسکے عیب بیان کیئے جائیں بلکہ اسکی لمحاتاں بیان کی جانی چاہئے، اگر وہ
بُرا تھا تو اسکو وہاں کا عذاب کافی ہے اور اگر وہ نیک ہے تو نیکوں کی بُرائی
کر کے تم کیا پاؤ گے؟

ایسے وقت مرنے والے کے سامنے مال و حائیہ ادیبوی بچوں کا تذکرہ نہ
کریں اگر وہ شروع کر دے تو حکمت عملی اور نہایت تحمل و عنایت سے بات چیت
کو آخرت کی طرف پھیر دیجئے۔

(۵) میت کے مسائل:-

اب مرنے والا مرچکا اسکا بے جان لاشہ آپکے سامنے ہے آنکھیں کھلی
رہ گئی ہوں تو بند کر دیجئے، اور بند کرتے وقت یہ کلمات پڑھئے:

"بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى وَلٰهِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلٰيْهِ الْحَمْدُ يَسِّرْ عَلٰيْهِ
الْمُرْءَ وَ سَهِّلْ عَلٰيْهِ مَا يَعْدَهُ وَ أَسْعِدَهُ بِلِقَائِكَ وَ اجْعَلْ
مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ۔ (مراتی الفلاح، ص ۱۱۲)

پھر کپڑے کی ایک پٹی اسکی ٹھوڑی کے نیچے سے لیکر اسکے سر پر باندہ
دیجئے تاکہ منہ کھلانہ رہ جائے اور پیٹ پر لوہے یا مٹی کا کچھ ہلاکا وزن رکھ دیجئے
تاکہ پیٹ مکھوں نہ جائے، اور دونوں پیر کے انگوٹھے ملا کر باندہ دیجئے۔
میت کو چار پائی یا تخت پر بھی رہنے دیجئے اور اسکے اطراف عطر چھڑک کریا گو
لو بان جلا کر خوشبو مہر کا دیجئے، میت کے پاس نیا کی کی حالت میں نہ مرد آنے
پائے نہ عورت، البتہ بعض علماء نے حیض و نفاس والی عورت کو میت کے قریب
بیٹھنے میں مضافتہ نہیں سمجھا ہے۔ (مراتی الفلاح، صفحہ ۱۱۲)

جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے میت کے قریب قرآن نہ پڑھا جائے
البتہ دوسرا کمرے میں پڑھا جاسکتا ہے۔ اب مرنے والے کی خبر اعزہ و اقرباء
اور اہل ماحظہ خصوصی احباب کر کر دیجئے اور تجدیز و تکفیر اور قبر کی تیاری میں مشغول
ہو جائے کیونکہ یہ مشورہ نبی کریم ﷺ نے دیا ہے اور تاکید بھی فرمائی ہے اسی
میں ہماری اور میت کی بھلائی ہے، میت کے چہرے کو نوسرہ (۱) دینا، قبر میں
اسکی صورت دیکھنا درست ہے۔ اگر میت عورت ہو تو ایسے وقت غیر محروم مردوں

(۱) عن عائشہ (فی روایۃ وفات النبی ﷺ) فدخل فکشف عن وجهه ثم اکب عليه فقبلة ثم
بكى (بخاری)

کلمہ والی انگلی پر کپڑا یا روئی پیٹ کر اسکو ترکیجئے پھر میت کے دانتوں اور مسوڑوں پر تین تین بار مٹئے اور کپڑا یا روئی نکال کر پھینکئے پھر روئی یا کپڑے کی بُتی بنائے اسکو ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیرا دیجئے (منہ اور ناک میں پانی نہ ڈالنے) اب منہ، ناک، کان میں روئی رکھ کر پانی سے منہ ڈھلانے دیجئے، پھر کہنی سمیت دونوں ہاتھ ڈھلائیے سر کا مسح کر دیجئے اور ڈاڑھی کو خلطی یا صابون سے اچھا صاف کر دیجئے۔ پھر میت کو باہمیں کروٹ کر کے سر سے پیروں تک تین مرتبہ پانی بہا دیجئے اور ساتھ صابن وغیرہ سے بدن بھی ملتے جائیے (مگر ستر کی جگہ کو کپڑے کی تھیلی پہنے بغیر ہاتھ نہ لگائیے) اسکے بعد میت کو داہنی کروٹ لٹا کر اسی طرح تین مرتبہ بدن ملتے ہوئے پانی بہاد دیجئے، پھر اپنے ہاتھوں یا گھٹنوں یا سینے سے سہارا دیکر بیٹھائیے اور پیٹ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف ملنے اگر کچھ غلاظت نکلے تو ڈھو ڈالنے مگر دوبارہ وضو یا غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ اسکے بعد میت کو باہمیں کروٹ لٹا کر کافور ملا ہو اپانی سر سے پیروں تک تین مرتبہ بہاد دیجئے، غسل پورا ہو گیا، تمام بدن کو خشک کپڑے سے پوچھ ڈالنے اگر اسکے بعد بھی بدن سے کوئی غلاظت خارج ہو تو اسکو دھو ڈالیے دوبارہ وضو یا غسل کی ضرورت نہیں۔ اب تہبند بدال دیجئے، سر میں بال ہوں تو ان میں اور ڈاڑھی پر خوشبو (عطر) لگائیے، میت کے دونوں پیروں ہتھیلوں اور پیشانی اور ناک کہنی اور گھٹنوں پر کافور مل دیجئے۔ اگر منہ، کان، ناک میں روئی رکھ دی جائے تو حرج نہیں (تاکہ کوئی

کو ہٹا دینا چاہئے۔ میت کا پردہ واجب ہے۔ (مراقب الفلاح صفحہ ۱۱۳)

(۶) غسل میت کے مسائل:-

لکڑی کا وہ تنخہ جس پر لاش لٹائی جاتی ہے لمبائی میں مشرق مغرب کی سمت میں رکھ دیجئے اور اسکو تین یا پانچ مرتبہ صندل یا عوداً لو بان کی ڈھونی دیجئے (۱)۔ پھر میت کو اس پر اس طرح چت لٹا دیجئے کہ پیغمبر قبلہ کی طرف رہیں اور منہ بھی کچھ قبلہ رُخ ہو جائے (البته اتنی جگہ نہ ہو کہ اس طرح لاش کو لٹا سکیں تو جیسا بھی موقعہ ہو دیے ہی غسل دے دیں)۔ اب میت کے جسم والے کپڑے اتار دیجئے مگر پا جامہ یا تہبند جو بھی ہو اس احتیاط سے اتاریے میت کا ستر کھلنے نہ پائے اسکے بعد ہاف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا ڈال کر پا جامہ یا تہبند کھینچ لیجئے، غسل کے لئے جو پانی گرم کریں اسکیں بیری یا خلطی یا نیم کے پتے یا صابن ڈال کر گرم کریں اگر ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہ ہو تو سادہ گرم پانی کافی ہے۔

غسل شروع کرنے سے پہلے مٹی کے تین عدد ڈھیلے (یا طاق عدد) سے میت کی نجاست دور کر دیجئے پھر کپڑے کی تھیلی باہمیں ہاتھ میں پہن کر پانی سے استنجاء کروا دیجئے اور پھر تھیلی نکال پھینکئے اور ہاتھ دھو کر داہنے ہاتھ کی

(۱) عوداً لو بان کی ڈھونی صرف تین موقعوں پر دی جاتی ہے۔ ۱۔ میت کی روح نکلنے کی وقت ۲۔ غسل جنازے کی وقت۔ ۳۔ کفانا نے کی وقت۔ جلوس جنازے میں ڈھونی کرنا منوع ہے۔

آلش نہ نکلے)۔

(۷) غسل دینے والے:-

(۱) میت سے جسکار شستہ زیادہ قریب ہو وہ غسل دے یا پھر کوئی نیک پر ہیزگار آدمی جو غسل کے مسائل سے واقف غسل دنے۔

(۲) بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، انھا بیٹھا سکتی ہے (بذریٰ شرح ابو داؤد، ج ۲، ص ۱۹۱)، لیکن شوہر اپنی بیوی کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ ہاتھ لگا سکتا ہے البتہ چہرہ دیکھ سکتا ہے اور جنازہ انھا سکتا ہے (مراتی الفلاح۔ ص ۱۱۳)۔

(۳) اسی طرح ایسے لڑکے یا لڑکیاں جو شہوت کی حد تک نہ پہنچے ہوں انکو مردیا عورت کوئی بھی غسل دے سکتے ہیں۔

(۴) اگر میت عورت ہے اور کوئی عورت نہ لانے والی نہ ہو یا میت مرد مسنون کفن سے کم ہوں تو اضافہ کیا جائیگا اور اگر زائد ہوں تو انھیں اُتار لیا جائیگا، نماز جنازہ اداء کی جائیگی اگر یہ لوگ جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں تیتم کر رہے ہوں غسل دینے کی ضرورت نہیں، تیتم سے غسل ادا ہو گیا۔

(۵) غسل دینے والوں کو غسل دیتے وقت غُفرانَکَ یا رَحْمَنُ (اے رحمت والے تیری مغفرت مانگتے ہیں) پڑھتے رہنا چاہئے۔

(۶) اگر کوئی شخص ڈوبنے سے مر جائے تو اسکا غسل بھی ضروری ہے البتہ یانی سے نکلتے وقت غسل میت کی نیت سے لاش کو یانی میں حرکت

دیدی جائے تو میت کا غسل ادا ہو جائیگا، لیکن سنت کے مطابق غسل درینا چاہئے۔

(۷) جملی کئی میت کو بھی غسل کوفن دیا جائیگا، اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائیگی۔

(۸) میت کے اعضا پر پلاسٹر وغیرہ لگا ہوا تو تو اسی حالت پر غسل دیا جائے گا نکالنے کی ضرورت نہیں۔

(۹) سری گلی میت کو غسل نہیں دیا جائیگا البتہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر نماز جنازہ پڑھی جائیگی اور دفن کر دیا جائیگا۔

(۱۰) اگر میت کا اکثر بدن یا نصف بدن سر کے ساتھ ملے تو اسکو غسل و کوفن دیا جائیگا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائیگی، ورنہ دیے ہی ایک کپڑے میں دفن کر دیا جائیگا۔

(۱۱) جو مسلمان خلما (۱) مارے جائیں یا شہید ہوں انکو غسل نہیں دیا

جائیگا جسم کے خون آلود کپڑوں کے ساتھ کوفن دیا جائیگا اگر میت کے کپڑے مسنون کفن سے کم ہوں تو اضافہ کیا جائیگا اور اگر زائد ہوں تو انھیں اُتار لیا جائیگا، نماز جنازہ اداء کی جائیگی اگر یہ لوگ جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں

(۱) جو مسلمان خلما مارے جاتے ہوں انھیں شہید کہا جاتا ہے یہ خلما مارا جانا خواہ میدان جہاد میں

ہو یا اسکو باغیوں، ڈاکوؤں، چوروں یا ظالموں نے قتل کر دیا ہو۔ شہید کی تین قسمیں ہیں (۱)

شہید فی الدنیا والآخرہ۔ اسکو شہید کامل بھی کہا جاتا ہے یہ وہ شہید ہے جس پر دنیا اور آخرت

میں شہادت کے احکام جاری ہوتے ہیں (اس شہادت کے ثبوت کیلئے سات شرطیں ہیں جو

کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہیں) ایسے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اسکے خون آلود کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے البتہ نماز جنازہ پڑھی جائیگی۔ (باقیہ صفحہ ۲۵ پر)

مارے گئے ہوں تو انہیں غسل بھی دیا جائیگا۔

(۱۲) نابالغ یا مجنون افراد ہوں تو انکے ساتھ عام میت جیسا معاملہ کیا

جائیگا، یعنی غسل و کفن دیا جائیگا۔

(۸) کفن اور میت کے مسائل:-

میت مرد:- اگر میت مرد ہو تو سنت یہ ہے کہ تین عدد سفید کپڑے خواہ

ڈھلے ہوئے ہوں ایک کپڑا تناچوڑا ہو کہ اسکی میت پیشی جاسکے اور اتنا لمبا ہو

کہ سر کے اوپر اور پیر کے نیچے کچھ نکلا ہوارہ ہے، اس کپڑے کو لفافہ کہتے ہیں، اسکو کسی پاک چنائی یا تخت پر بچھا دیجئے، پھر اسکے اوپر ایک اور کپڑا بچھا دیجئے جو

اتنا ہی چوڑا ہو مگر لمبائی میں میت کے سر سے پیر تک آجائے اسکو ازار کہتے

ہیں، اب ازار پر ایک ڈھیرا کپڑا جس کے نیچے میں چاک کھول دیا گیا ہو اور جو

میت کے کندھوں سے اسکی آدمی پنڈلیوں تک آجائے اس طرح بچھا دیجئے کہ

آدھا حصہ بچھا رہے اور چاک والا آدھا حصہ سرہانے کی طرف سما رہے اسکو

قیص کہتے ہیں، یہ مرد کا سنت کفن ہوا (لفافہ، ازار، قیص)۔

(تسلیل حاشیہ صفحہ ۲۵۵) (۲) شہید فی الآخرہ... ایسا شہید جو آخرت میں شہادت کا درجہ پائی گا دنیا میں

اُس پر شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ یہ وہ شہید ہے جو کسی حادثہ میں ڈوب مرا ہو یا آگ لگنے

سے فوت ہوا ہو یا عمارت یا کسی بلندی سے گرنے پر فوت ہوا ہو یا درندے کے کاث کھانے سے

فوت ہوا ہو یا بخار یا دورے پڑنے سے فوت ہوا ہو یا جو بیٹ کے درد سے یا عورت ولادت میں فوت

ہوئی ہو یا علم دین کی تحصیل میں یا جمعہ کی رات فوت ہوا ہو، اہل تحقیق علماء نے شہید فی الآخرہ کے گیارہ

نام بیان کئے ہیں جو احادیث صحیح سے ثابت ہیں (باقیہ ص ۲۶)

کفن پورا ہو چکا ب میت کو احتیاط سے اٹھا کر اس کفن پر لٹادیجئے اور قیص کا آدھا سمتا ہوا حصہ چاک میں سے گزار کر جسم پر اُٹ دیجئے کہ کندھوں سے پنڈلیوں تک آجائے، اب تہبند آہستہ سے کھینچ کر درمیانی کپڑے ازاز کو پہلے باہمی طرف سے میت پر لوٹ دیجئے اور پھر داہنی طرف سے لوٹ دیجئے، اسکے بعد نیچے والے کپڑے لفافہ کو بھی اسی ترتیب سے لپیٹ کر سرانے اور پائیتی کی طرف نکلے ہوئے کپڑے کوئی ڈوری یا کپڑے کی کترن سے باندھ دیجئے، بس میت کی تکفین ہو گئی۔

میت عورت:-

اگر میت عورت ہو تو سنت یہ ہے کہ پانچ کپڑے لیجئے جو پاک ہوں خواہ نئے ہوں یا پرانے، سفید ہوں یا نگین یعنی مردانہ کفن پر مزید دو کپڑے زائد ہوں گے ایک سینہ بند دوسرا سر بند (اوڑھنی)۔ سینہ بند میت کی بغل سے گھنٹوں

(تسلیل حاشیہ صفحہ ۲۵۵) ... (تفصیل کیلئے ہماری کتاب "فرامین رسول اکرم ﷺ" صفحہ ۲۵۵) آدھا حصہ بچھا رہے اور چاک والا آدھا حصہ سرہانے کی طرف سما رہے اسکو قیص کہتے ہیں، یہ مرد کا سنت کفن ہوا (لفافہ، ازار، قیص)۔

(۳) شہید فی الدنیا... یہ وہ پوشیدہ منافق یا غیر مخلص مسلمان ہے جو صرف نام آوری، یا زر زمین یا سر بلندی کیلئے نہ تھی اسلئے آخرت میں شہادت کا درجہ نہ پایا گا البتہ دنیا میں ظاہری طور پر شہید کے احکام جاری ہوں گے، یعنی اسکو غسل نہیں دیا جائیگا خون آکو دکپڑوں ہی میں دفن کیا جائیگا چونکہ مسلمانوں کا ظاہری الباء اختیار کیا تھا اسلئے اس پر نماز جنازہ یڑھی جائیگی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائیگا۔

کے نیچے تک لمبا ہو گا، اور سر بند سر سے لیکر بالوں کی لمبائی سے کسی قدر زائد لمبا ہو گا۔ عورت کے کفن میں پہلے سینہ بند بچھایا جائیگا اسپر لفافہ رکھئے پھر اسپر ازار، اس ازار پر سر بند اور پھر اسپر قیص پہننا کرتے بند تجھے تجھے اور سر کے بالوں کے دو حصے کر کے سر پر سے اوڑھنی لے کر ان بالوں کو اسکیں لپیٹ کر میت سینے پر رکھ دیجئے اور پھر اسپر ازار اور لفافہ لپیٹ دیجئے لسکے بعد سینہ بند بغلوں سے نکال کر گھٹنوں کے نیچے تک پہلے بائیں اور پھر دائیں طرف سے لپیٹ کر اسکے کناروں کی جگہ کواس کپڑے کی گردہ دے کر باندھ دیجئے اور کمر کو کسی فیتہ یا کپڑے کی کترن سے باندھ دیجئے، بس تکھین ہو چکی۔

(۹) اگر میت لڑکا یا لڑکی ہو:-

خواہ بالغ ہو یا نابالغ اس کا کفن مرد اور عورت ہی کے کفن جیسا ہو گا البتہ میت بہت چھوٹا بچہ ہو تو ایک کپڑے کا اور بہت بچھوٹی لڑکی ہو تو دو کپڑوں کا کفن جائز ہے۔ اگر لڑکا یا لڑکی مردہ پیدا ہوئے ہوں تو صرف ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے نہ اسکا (۱) مسنون غسل ہے نہ نماز جنازہ، البتہ اسکا نام رکھ دیا جائے (قیامت کے دن ایسے بچوں کوئی کے باپ کے نام کیسا تھا پکارا جائیگا)۔ اور اگر حمل ساقط ہو گیا ہو تو ناتمام بچے کا غسل ہے نہ کفن نہ نماز، ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے ایسے ناتمام بچے کا بھی نام رکھ دینا بہتر ہے۔ (گذ آ قالوا)

(۱) ویسے ہی غسل دے دیا جائے۔ یعنی جسم پاک کر دیا جائے۔

اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو کر دو چار سالس لیا پھر فوت ہو گیا تو اسپر عام میت کا حکم جاری ہو گا یعنی غسل و کفن، اور نماز جنازہ ادا کی جائیگی۔

(۱۰) اگر سنت کے مطابق کفن میسر نہ ہو:-

میت مرد ہو تو صرف دو کپڑے (لفافہ، ازار) اور اگر عورت ہو تو تین کپڑے (لفافہ، ازار، سر بند) کافی ہیں ایسے کفن کو "کفن کفایت" کہتے ہیں۔

اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو صرف ایک ہی چادر میں چھمیں میت کا سارا جسم مجھ پ جائے کافی ہے اس کو "کفن ضرورت" (۱) کہا جاتا ہے، غزوہ احمد کے بعض شہیدوں کو صرف ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا تھا۔

(۱۱) جنازے کے مسائل:-

میت کفنائی چاچکی تو اب اس کو کسی ڈولے یا چار پائی پر رکھ کر اسکے چاروں کو نے چار مرد اپنے کندھوں پر اٹھالیں اور پھر باری باری سے جتنے

(۱) اس "کفن ضرورت" میں بھی اگر کپڑا سرا اور پیر کونہ ڈھانک رہا ہو تو میت کے سر کو کپڑے سے ڈھانک، دیں اور پیروں کو گھانس یا کسی اور چیز سے چھپا دیں، حضرت خاچ اپنے ساہی حضرت مصعب بن عمرؓ کا کفن جو غزوہ احمدی شہید ہوئے تھے ایسا ہی بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان کا سر چھپانے اور پیروں پر گھاس ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت مصعب امیرزادے تھے اسلام قبول کرنے پر اُنکے کافر باپ نے انھیں گھر سے بہہ نکال دیا تھا اپنے باپ کے گھر روزہ نشانہ شام نیا باس تبدیل کیا کرتے تھے اور اتنا ہوا باس صدقہ کر دیا کرتے۔ اللهم رکھ دینا بہتر ہے۔ ارفع درجۃ و اکرم نُزلہ

لوگ جنازے کیسا تھا شریک ہیں کندھا دیتے رہیں کم از کم دس قدم ایک ایک طرف کندھا دیجئے تاکہ چالیس قدم جو مستحب عمل ہے پورا ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان چالیس قدموں کے عوض اللہ تعالیٰ اس اٹھانے والے کے چالیس کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ (مراتی الفلاح)

بہتر ہے پہلے میت کا دامہنا کندھا اپنے دامنے کندھے پر رکھیں چند قدم چل کر پھر میت کے دامنے پیر والا حصہ اپنے دامنے کندھے پر لیں اسکے بعد میت کا بایاں کندھا والا حصہ اپنے بائیں کندھے پر لیں پھر میت کا بایاں پیر والا حصہ اپنے بائیں کندھے پر لیں اس طرح چاروں گوشوں کو اٹھانے پر پوری میت اٹھانے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ (نور الایضاح، بدایہ)

جنازہ وقار کے ساتھ مگر ذرا ایک قدم سے نہ لے جائے آپ کے چہروں پر غم کا اثر اور دل میں خدا کا خوف رہے آپس میں دنیاوی بات چیت، گپ شپ، سگریٹ نوشی، فضول گوئی ہرگز نہ ہونے پائے بلکہ دلبی زبان سے ذکر اللہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانِ رَسُولِهِ وَسُبْحَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (یا اور کوئی ذکر اللہ کرتے رہئے یا قرآن کی تلاوت کرتے رہئے یہ سچے کہ میت پر کیا گزر رہی ہے؟ یا کیا گزر گی؟ اور یہی سب کچھ ہم پر بھی گزرنی ہے۔ ایسے عبرت کے وقت میں غفلت بری اور بہت بری ہے۔ اللهم اهدِنَا سَدًّا خُطَّاناً۔

جلوہ جنازہ میں اونچی آواز سے کلمہ طیبہ یا اور کوئی ذکر کرنا منوع ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اسکو نرمی سے روک دیجئے۔ (لطحاوی علی مراتی الفلاح) جنازے کے ہمراہ پیدل چلنا اور پیچھے چلنا مستحب ہے ضرورت سوار بھی

ہو سکتے ہیں۔

جلوہ جنازہ میں عورتوں کا شریک ہونا منع ہے۔ (مراتی الفلاح)

جنازے کوئی سواری یا موڑ کار پر لی جانا سنت طریقہ نہیں۔

(۱۲) نماز جنازہ کے مسائل :-

نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اگر ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو سب کی جانب سے فرض ادا ہو گیا خواہ نماز پڑھنے والا مرد ہو یا عورت البته اگر کسی نے بھی نہ پڑھ تو سارے شہر والے گنہگار ہونگے، کہیں لئی صورت ہو جائے تو بعد میں قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔

(۱۳) نماز جنازہ کا طریقہ:-

میت کو آگے رکھے اور امام اسکے سینے کے مقابل قبلہ رخ کھڑا ہو جائے اور لوگ امام کے پیچھے کم از کم تین صحفیں قریب قریب بنالیں، نیت اس طرح سمجھئے ”نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ کیلئے اور اس میت کی دعا کیلئے“ اسکے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ عام نمازوں کی طرح باندھ لیجئے اور ہنما اس طرح پڑھئے (۱)۔
(نیت میں الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں)

(۱): پہلی بھیکر کے بعد سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کے علاوہ سورۃ فاتحہ بطور شاپڑی جائے تو بھی جائز ہے، نماز جنازہ میں میت کیلئے کئی ایک خاص دعا نہیں آئی ہیں سب پڑھی جا سکتی ہیں۔

(مراتی الفلاح - ص ۱۱۵)

آخری سفر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَبَتَارِكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى
جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہئے مگر ہاتھ نہ اٹھائیے اور درود شریف (جو عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے) پڑھے پھر بلا ہاتھ اٹھائے تیسرا تکبیر کہئے (ہاتھ اٹھاتے وقت یا تکبیر کہتے وقت آسمان کی جانب نہ دیکھئے جیسا کہ عام طور پر زواج ہے) اور یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيْتَنَا وَشَاهِدَنَا وَغَايَتَنَا وَصَغِيرَنَا وَ
كَبِيرَنَا وَذَكَرَنَا وَأَنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَتْنَاهُ مِنْ أَحْيَتْنَاهُ فَاحْيِهْ عَلَى الْأَ
سْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنْ أَنْ قَوْقَهَ عَلَى الْإِيمَانِ .

اتی دعا کافی ہے البتہ اسکے ساتھ یہ بھی دعا ملائیجے تو زیادہ بہتر ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَرْحَمْهُ وَعَافْ عَنْهُ وَأَنْكِرْ نُزَّلَهُ وَوَسَعْ
مَدْ خَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقْةٌ مِنَ النَّحْطَانِ يَا كَمَا
يَنْقُى التَّوْبُ الْأَيْضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ
وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَمْ خَلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُ
مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ وَعَدَابِ النَّارِ (۱)

(۱) نبی کرم ﷺ نے ایک صحابی کے نماز جنازہ میں مذکورہ دعا ہلکی آواز سے پڑھی راوی حدیث حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شدید خواہش و تمنا پیدا ہوئی کہ اے کاش یہ میت میں ہوتا۔ (مراتی الفلاح)

آخری سفر

۳۲

اکرمیت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھی جائے۔
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا
شَافِعًا وَمُشَفِّعًا ۔

اور اگرمیت نابالغ لڑکی ہو تو یہی دعا معمولی سی شدیلی سے اس طرح پڑھیں۔
اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا
شَافِعَةً وَمُشَفِّعَةً ۔

اگر کوئی دعا بھی یاد نہ ہو تو رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةٌ وَقَنَا عَدَابَ النَّارِ پڑھ لیں۔

اور اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو میت کے سامنے باوضویں باندہ کر چار مرتبہ
اللہ اکبر کہہ دیں فرض کفایہ ادا ہو جائیگا۔ جب دعا یعنی میت پڑھ چکیں تو پھر
چوتھی تکبیر کہہ کر عام نمازوں کی طرح دونوں جانب سلام پھیر دیں، بس نماز
جنائزہ ادا ہو گئی، اب فوراً جنائزہ اٹھا کر قبرستان لے چکیں، نماز جنائزہ کے بعد
”الْفَاتِحَةُ“ کہنا یا پھول کی چادر وغیرہ ڈالنے کی اکرم ﷺ سے ثابت شہیں اور نہ ہی
آپ کے اصحاب نے کبھی ایسا کیا نہ ہی ہمارے آخرتہ فتنہ اس کے قائل ہیں بلکہ اسکے
خلاف تصریحات ملتی ہیں۔
(دیکھئے شای، عالمگیری، مراثی الفلاح وغیرہ)۔

(۱۲) اگر ایک وقت میں کئی جنائزے ہوں:-
بہتری ہی ہے کہ ہر ایک جنائزے کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے لیکن سب

پڑھائی تو میت کے ولی کو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا حق ہے۔ اگر میت دن ہو چکی ہو تو اسکی قبر پڑھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔

خود گئشی سے فوت ہونے والے کو عسل و کفن و نماز جنازہ سب کچھ کیا جائیگا البتہ دوسروں کی عبرت کیلئے شہر کے نیک دوسرے آور دہ حضرات شریک نہ ہونگے۔

(۱۴) قبر کے مسائل:-

قبر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تحد (بغلی قبر) دوسری شق (صندوق نہما)۔ کو بغلی قبر مسنون ہے مگر آج کل عرب و عجم میں صندوقی قبر کارروائج ہے، لہذا ہم اسکی تفصیل لکھتے ہیں۔

(شق) صندوقی قبر:-

میت کی لمبائی سے کچھ زیادہ دراز اور اتنا چوڑا اگر ہا کھد وائیے کہ اسکی لمبائی میں دونوں طرف اینٹ کی چھوٹی دیواریں بھن دی جائیں تو بھی اسکی میت کیلئے علاحدہ جگہ رہ جائے، اس علاحدے کی کھرائی درمیانی قد کے سینہ برابر یا پورے قد کے نہایت ہو۔ قبر کی لمبائی میں دائیں بائیں کچھ اینٹ کی دیواریں سطح زمین سے ایک ہاتھ کم چنوا دیجئے یا لکڑی کے تختے یا لکڑی کھڑی کر دی جائیں تاکہ میت کو قبر میں لٹانے کے بعد ان دیواروں پر لکڑیاں یا تختے بچا کر قبر کی چھت پاٹ دی جائے پھر چھت پر مٹی ڈالکر قبر بند کر دی جائے،

جنازوں کیلئے ایک ہی نماز پڑھنا بھی درست ہے ایسی صورت میں جنازے طوا ایک دوسرے کے سامنے رکھے جائیں تاکہ سب امام کے رو برو ہوں، اگر جنازہ عید کی نماز کے وقت آئے تو پہلے نماز عید ادا کی جائے پھر نماز جنازہ اسکے بعد خطبہ عید پڑھا جائے اور یہی صورت نماز جمعہ کے وقت پیش آئے تو پہلے خطبہ جمعہ پھر نماز جمعہ ادا کی جائے اسکے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے۔

(۱۵) جوتا پہنے نماز ادا کرنا:-

یہ صرف اسی وقت جائز ہے جبکہ جگہ اور جوتے پاک ہوں، ناپاک جوتے پہن کر نماز جنازہ ادا کرنا درست نہیں۔ اس طرح پیروں سے جوتا انتار کر اسپر کھڑا ہونا جیسا کہ عام روایج ہے یہ عمل بھی اس وقت درست ہے جبکہ جوتے پاک ہوں ورنہ نماز جنازہ ادا نہ ہوگی۔

(۱۶) نماز جنازہ کی امامت:-

سب سے پہلے اسکا حق بادشاہ وقت کو ہے یا اسکا نائب اور اگر یہ نہ ہو تو شہر کا قاضی۔ ان حضرات کو امام بنانا واجب ہے خواہ میت کا ولی چاہے یا نہ چاہے اور خواہ ان سے بھی زیادہ اور کوئی عابد وزاہد لوگ موجود ہوں اگر ان میں سے کوئی نہ ہوں تو پھر محلہ کی مسجد کا امام بشرطیکہ میت کے عزیزوں میں افضل کوئی مرد نہ ہو وہی عزیز امامت کرے۔ پھر میت کا ولی یا جسکے مختار اور مختار کرنا کرنا کرنا۔ کر بغہ کسے، زیارت حرمہ

قبر کی اوپنچائی سطح زمین سے ایک بالشت اوپنچی رہے۔

اس صندوقی قبر میں ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ قبر کھدواتے وقت ایک دوہا تھوڑا کھدائی کے بعد قبر کے دائیں باسیں ایک بالشت چوڑی زمین چھوڑ گر باقی قبر کی گہرائی کھودی جائے تاکہ ایک چوڑائی والا حصہ (جسکو عام بول چال میں حوضہ کہا جاتا ہے) چھٹ ڈالنے کے کام آئے، آجکل یہی صورت عام طور پر راجح ہے البتہ جہاں زمین زیادہ نرم ہو تو پھر یہی صورت اختیار کرنی ضروری ہو جاتی ہے اس قبر کو "صندوقی قبر" کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔
الحمد (بغلی قبر)۔

یہ نرم زمین میں تیار نہیں ہو سکتی اس کیلئے سخت زمین ضروری ہے اسکی ترکیب یہ ہے کہ میت کے قد سے کچھ زائد اور اس کے سینہ یا قد سے برابر گہرا گڑھا کھدا کر اس میں نجھلی سطح پر قبلہ کی دیوار میں سطح زمین سے کچھ اوپر میت کی لمبائی کے برابر ایک اور خول تیار کیا جائے اسی خول میں میت کو لٹا کر لکڑیوں یا کچھ اینٹوں سے خول کو بند کر دیجئے اور باقی گڑھے (حوضہ) میں مٹی بھر کر قبر بھروادیجئے اسی قبر کو الحمد (بغلی قبر) کہا جاتا ہے۔ (۱)

اگر زمین بہت ہی نرم یا زیادہ گیلی ہو اور قبر بنانا دشوار ہو تو میت کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر گڑھا کر کے دفن کیا جائے البتہ سنت یہ ہے کہ صندوق کے اندر رٹھی کا فرش کر دیں اور رٹھی ہی سے اسکے اندر وہی حصوں کو لیپ پوت کر دیں، قبر کو سطح زمین سے ایک بالشت سے بہت زیادہ بلند کرنا مکروہ ہے۔ قبر پر کتبہ لگانا بھی درست نہیں۔

(شامی، در متار، عالمگیری)

(۱۸) مدفین کے مسائل:-

میت کا دفن کرنا فرض کفایہ ہے (یعنی مقامی حضرات میں سے چند ایک نے یہ فرضہ ادا کر دیا تو شہر کے تمام مسلمانوں سے یہ فرضہ ادا سمجھا جائیگا)، دفن سے پہلے میت کا ذولہ یا چارپائی قبر کے قبلہ جانب رکھدیجئے پھر دو یا چار مضبوط قسم کے آدمی قبر میں اٹا رہیجئے وہ میت کو قبر میں رکھنے کیلئے قبر کے سورہا نے، پاپتی اور درمیان میں کھڑے ہو جائیں (ہمارے نبی کریم ﷺ کو آپکی قبر مقدس میں چار (۱) حضرات نے اٹا رہا) پھر قبر کے اوپر والے حضرات نہایت تحمل و سکون سے میت کو اٹھا کر قبر کے اندر والوں کے حوالہ کریں قبر میں لٹاتے وقت بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ

(تلسل صفحہ ۵۳) چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری پہلے آپنچے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ کیلئے (مندوقي قبر) کا، مجاہرین صحابہ نے شق والی قبر تیار کریکا مشورہ دیا اور انصار مدینہ نے الحمد (بغلی قبر) کا مشورہ دیا، صحابہ کرام میں حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح شق والی قبر کھوونے

(۱) حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت علی، حضرت ضھبیٰ کے ماہر تھے۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری الحمد کھوونے کے ماہر تھے۔ (باقی صفحہ ۳۶ پر)

عورت کے دفن کے وقت:-

قبو پر پردہ کرنا ضروری ہے، عورت کی لاش کو صرف اُسکے محرم افراد ہی اتاریں، اگر محرم نہ ہوں تو دوسرے قرابت دار لوگ اور اگر یہ بھی نہ ہوں تو پختہ عمر کے نیک و متقی حضرات اتاریں اور اگر کہیں یہ بھی میت نہ ہوں تو عام نیک لوگ اتار سکتے ہیں۔

قبو کھونے میں بہت وقت ہوتی ہو یا جگہ کم ہو تو ایک قبر میں چند میتوں کو چھروہ کا قبلہ رُخ کر دینا کافی نہیں اگر کہیں ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو جس قدر بھی ہو سکے میت کو قبلہ رُخ کر دیا جائے۔ اب جو لوگ قبر میں اترے تھے وہ اوپر پھر درجہ بدرجہ، جگہ کی تنگی یا کسی مجبوری کی وجہ سے عورت میت کو مرد میت کیسا تھا ایک قبر میں رکھا جاسکتا ہے البتہ دونوں کے درمیان مٹی یا لکڑی کی آڑ کر دینی چاہئے۔

(۱۹) ما بعد دفن کے مسائل:-

دفن کے بعد مستحب ہے کہ کچھ دیر قبر کے قریب بیٹھے رہیں (یہ جو روایج کہیں)۔ ہے کہ دفن کے بعد فوری چالیس قدم دور ہو جاتے ہیں ایک بے اصل ولغو بات ہے) ”نبی کریم ﷺ میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر قبر پر ٹھیر جاتے اور حاضرین سے فرماتے کہ اپنے بھائی کیلئے استغفار کرو اور کلمہ توحید پر ثابت رہنے کی دعا کرو کیونکہ اسوقت اس سے سوال کیا جائیگا“ (الحدیث) حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ دفن کے بعد میت کے سرہانے

۳۷ آخری سفر

کہیں۔ قبر میں چت لٹا کر کفن کی گرہیں کھول دیں اگر کوئی چہرہ دیکھنا چاہتا ہو تو دکھادیجئے، میت اگر عورت ہو تو غیر محرم حضرات کو ہٹا دیا جائے، زندوں پر پردے کی پابندی ضروری ہے۔ لسکے بعد کفن سے چہرہ ڈھانک دیجئے، اب مٹی کے نرم ڈھنیلوں سے یا مٹی کا پتہ سر اور پیٹھ کے نیچے لگا کر میت کو داہنے پہلو پر کر دیجئے کہ پوری لاش قبلہ رُخ ہو جائے یہی طریقہ سنت ہے صرف چھروہ کا قبلہ رُخ کر دینا کافی نہیں اگر کہیں ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو جس قدر بھی ہو سکے میت کو قبلہ رُخ کر دیا جائے۔ اب جو لوگ قبر میں اترے تھے وہ اوپر آجائیں اور قبر کے حوضہ یا بغلی قبر کی صورت میں بغل کے دہانے کو لکڑی کے تختوں یا کچے پتھر کی سبلوں سے بند کر دیجئے اور درازوں میں مٹی کا گارا بھر دیں تاکہ مٹی لاش پر نہ گرنے پائے، اب سب حاضرین تین مرتبہ مٹھیاں بھر بھر کر اس قبر کی چھت پر مٹی ڈالیں، پہلی بار مٹی ڈالتے وقت منہا خلقِ نعمٰ دوسری بار وَ فِيهَا نُعِيْدُكُمْ اور تیسرا بار وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى کہیں۔

جب سب لوگ یہ سنت ادا کر دیں تو سرہانے کی طرف سے قبر بھرنا شروع کر دیں اور سنت یہ ہے کہ ایک بالشت (اگر کچھ زائد ہو تو مضائقہ نہیں) قبر کو اونچا کر کے اونٹ کے کوہاں کی صورت بنادیں پھر قبلہ کی سمت پر سرہانے سے پانچتی تک تین مرتبہ پانی چھڑک دیں اس طرح دوسری سمت بھی پانی چھڑک دیں (یہ مستحب عمل ہے)۔

سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتیں یعنی آتم سے مُفْلِحُوْنَ تک اور پائینتی کی طرف امن الرُّسُولُ سے ختم سورۃ تک کی آیتیں پڑھی جائیں۔ دفن کے بعد لوگ اہل میت کو تعزیت دیکر اپنے گھر چلے جائیں۔ میت کے گھر پر اجتماع کرنا اور کھانے پینے کیلئے دسترخوان لگانا مکروہ عمل ہے کیونکہ اجتماع کھانا پینا خوشی و مسرت کے وقت ہوا کرتا ہے نہ کغم و مصیبت کے وقت، یہ ایک بُری رسم ہے جو رواج پائی۔ البتہ میت کے گھر والوں کیلئے کھانا پینا بھی جتنا سنت عمل ہے نبی کریم ﷺ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا ہے اور اگر کوئی شخص غیر دطن میں فوت ہو جائے تو اسکو اسی جگہ دفن کرنا سنت ہے، دفن کرنے کے بعد لاش کو بکال کر اسکے دلن لانا جائز نہیں۔

(مراتی الفلاح صفحہ ۱۲۰)

(۲۰) زیارت قبور کا صحیح طریقہ:-

قبروں کی زیارت کرنا مستحب عمل ہے۔ جہاں یہ عمل میت کیلئے مفید ہے خود زیارت کرنے والے کیلئے بھی عبرت و نصیحت ہے۔ بہتر یہ ہے ہر ہفتہ کم از کم ایک مرتبہ قبروں کی خاص کزوں الدین کے قبروں کی زیارت کرنا مستحب عمل ہے، زیارت کیلئے جمعہ، پیغمبر، جمعرات کا دن بہتر ہے ورنہ جس دن بھی موقعہ ملے۔ گاہے مانے ہے قبروں کی زیارت کر لیا کرے، قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمْنَا اللَّهُ وَآيَاتُكُمْ

(ریاض الصالحین ص ۲۶۲)

ایسے ہی بعض دیگر دعائیں ثابت ہیں پڑھی جائیں (درحقیقت یہ پیام و کلام نہیں بلکہ سلامتی کی دعا ہے جیسا کہ زندوں کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ کہا جاتا ہے (تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی حمتیں و برکتیں ہوں)۔ قبرستان میں سورۃ یسین پڑھنے اور اسکا ثواب اہل قبور کو بخشنے پر اس دن اللہ تعالیٰ قبرستان کے سارے مُردوں سے عذاب میں (اگر ہو رہا ہو) تخفیف کر دیتے ہیں بلکہ اٹھادیتے ہیں، ایسے ہی جمعہ کے دن پڑھنے پر مُردوں سے عذاب اٹھایا جاتا ہے۔ (مراتی الفلاح ص ۱۲۱)

علاوه ازیں سورۃ واقعہ، تبارک الذی، قل هو اللہ احد (گیارہ مرتبہ) اور قرآن کا جتنا چاہے حصہ پڑھئے اور اسکا ثواب اہل قبور کو پہنچادے، میت کو جیسے مالی صدقات کا ثواب پہنچتا ہے بدین عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے (اہل علم سے مراجعت کی جائے) قبرستان میں جو تا پہن کر شہ جانا چاہئے اور نہ قبروں کو روشن نہ اورست ہے، نہ ان پر بیٹھنا درست ہے۔ زیارت قبر کے وقت میت کی پائینتی کھڑا ہونا بہتر ہے۔ میت کیلئے دعا کرتے وقت قبر کے سامنے ہاتھ آٹھانا بھی صحیح نہیں، بغیر ہاتھ آٹھائے دعا پڑھ دی جائے یا قبلہ رُخ ہو کر دعا کی جائے۔

(۲۱) مستغرقات:-

- (۱۰) جس شہر میں انتقال ہو میت کو وہیں دفن کرنا چاہئے فن کیلئے دوسری جگہ
یجانا مکروہ تحریکی ہے (طحاوی، مراتی الفلاح)۔
- (۱۱) دفن کرنے کے بعد قبر کھود کر میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا ناجائز اور گناہ کی
بات ہے۔
- (۱۲) میت کے عزیز و اقربہ سے تعزیت کرنی مسحی عمل ہے (یعنی انھیں تسلی
دینا اور صبر کی تلقین کرنا) لیکن یہ تعزیت تین دن کے بعد مکروہ ہے، البتہ
تعزیت کرنے والا پا جسکی تعزیت کرنی ہے وہ باہر ہو یا سفر میں ہو تو آنے
کے بعد تعزیت کی جاسکتی ہے۔
- (۱۳) ایک دفعہ تعزیت کرنے کے بعد دوبارہ تعزیت کرنی مکروہ ہے۔
- (۱۴) میت کو غسل دینے والوں کو بعد میں خود غسل کرنا سنت ہے۔
- (۱۵) اسی طرح میت کو اٹھانے والوں کو بھی گھر آ کر دضو کرنا سنت ہے۔
- (۱۶) جلسہ تعزیت کرنا جیسا کہ آجکل عام رواج ہو چکا ہے بے اصل بات ہے۔

والسلام

خادم الکتاب والشیخ

محمد عبد الرحمن غفرلہ

مقیم جدہ، ۱۴۲۰ھ م ۰۳ مئی ۱۹۹۹ء

(سعودی عرب)

- (۱) حاملہ عورت فوت ہو جائے اور پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو میت کا پیٹ چاک
کر کے بچہ کو نکال لیا جائیگا۔
- (۲) تدفین میں تاخیر کرنی یا نماز جمعہ میں شرکت کیلئے یا کسی کے انتظار میں
میت کو روک کر رکھنا درست نہیں۔
- (۳) اگر کوئی شخص پانی کے جہاز میں فوت ہو جائے اور وہاں سے ساحل اتنی
دور ہے کہ میت کے خراب ہونے کا اندازہ ہو تو جہاز ہی میں غسل و کفن
دیکھ پانی میں بہانیا جائیگا، ورنہ ساحل کا انتظار کیا جائیگا۔
- (۴) کفن پر یامیت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ یا اللہ کا نام لکھنا درست نہیں۔
- (۵) کفن میں یا قبر کے اندر عہد نامہ یا پیڑ کا شجرہ یا کوئی ڈعا کا کاغذ رکھنا
درست نہیں۔
- (۶) اپنے لئے کفن تیار رکھنا جائز ہے البتہ قبر کا تیار رکھنا مکروہ ہے۔
- (۷) قبر کو مرتع (چوکنڈی) بنانا مکروہ ہے بلکہ اونٹ کے کوہاں جیسی زمین سے
ایک بالشت اونچی بنانا چاہئے۔
- (۸) میت کو کسی چھوٹے یا بڑے مکان یا گبعد وغیرہ میں دفن کرنا درست نہیں
یہ صرف انپیاء کرام کیلئے خاص ہے۔
- (۹) قبر پر گچ کرنا یا اسکو پختہ بنانا یا اس پر لکڑی کی چوکنڈی رکھنا اور کتبہ لگانا نجع ہے۔

کتاب کے مائنڈ

- (١) **القرآن الكريم** : كتاب رب العالمين جل جلاله

(٢) **نور الايضاح** : شيخ حسن بن علي الشرملاقي المتوفى ٦٩٤هـ

(٣) **مراقبى الفلاح معه** :

“ حاشيه طحطاوى ”

(٤) **قدوري** : امام ابو الحسين احمد بن محمد القدوري المتوفى ٢٨٧هـ

(٥) **رياض الصالحين** امام النووى المتوفى ٦٧٤هـ

(٦) **تنبيه الغافلين** : امام ابواليث السمرقندى المتوفى ٣٧٣هـ

(٧) **موضح القرآن**: شاه عبد القادر محدث المتوفى ٣٢٠هـ

شیخ خلیل احمد محدث

(٨) **بذل المجهود**

شرح ابو داود

(٩) **بہشتی زیور حکیم الامت** مولانا اشرف علی تھانوی المتوفى ٣٦٣هـ

آٹھ خوش نصیب

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اور امام جلال الدین سیوطیؒ نے لکھا ہے، جن مسلمانوں سے قبر میں سوال نہ ہو گا وہ آٹھ طبقات ہیں:-

- (۱) شہداء (قاتل فی سبیل اللہ میں فوت ہونے والے)۔

(۲) اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہد۔

(۳) مرض طاعون میں فوت ہونے والے مسلمان۔

(۴) طاعون زدہ علاقہ کے وہ مقیم جو طاعون کے خوف سے ترکِ دھن نہیں کئے بلکہ اسی شہر میں اعتماد علی اللہ ٹھہرے رہے پھر دہاک کی دوسرے سبب فوت ہوئے ہوں۔

(۵) صدیقین (سر اپا صدق مسلمان)۔

(۶) نابالغ لڑکے، لڑکیاں۔

(۷) جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن فوت ہونے والے مسلمان۔

(۸) ہر رات سورۃ الملک (یارہ ۲۹۵) پڑھنے والے مسلمان۔

لِمَحَاتِ فِكْرٍ

مَا أَخْسَنَ الْإِسْلَامَ يَزِينُهُ الْإِيمَانُ
وَهُوَ إِسْلَامٌ كَتَنَا أَجْهَاءِهِ جَسْكُوا إِيمَانٌ نَّزَّلَ زِينَتَهُ دِيَهُ
وَمَا أَخْسَنَ الْإِيمَانَ يَزِينُهُ التَّقْوَى
أَوْهُوَ إِيمَانٌ كَتَنَا أَجْهَاءِهِ تَقْوَىً جَسْكُوا زِينَتَهُ دِيَهُ
وَمَا أَخْسَنَ التَّقْوَى يَزِينُهُ الْعِلْمُ
أَوْهُوَ تَقْوَىً كَتَنَا أَجْهَاءِهِ عِلْمٌ جَسْكُوا زِينَتَهُ دِيَهُ
وَمَا أَخْسَنَ الْعِلْمَ يَزِينُهُ الْعَمَلُ
أَوْهُوَ عِلْمٌ كَتَنَا أَجْهَاءِهِ عَمَلٌ نَّزَّلَ زِينَتَهُ دِيَهُ
وَمَا أَخْسَنَ الْعَمَلَ يَزِينُهُ الرِّفْقُ
أَوْهُوَ عَمَلٌ كَتَنَا أَجْهَاءِهِ رِفْقًا جَسْكُوا تَوَاضُعَ نَّزَّلَ زِينَتَهُ دِيَهُ

(محیث رجاء بن حیوہ)

ایک عبرت، اک نصیحت

تو بارے بندگی ہے یاد رکھ بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ
درستہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ
تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا کنج سیم وزر بھی پایا تو کیا
قصر عالی شان بنوایا تو کیا دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا
قیصر و اسکندر و مختم چل بے زال و سُرُاب درستم چل بے
کیسے کیسے شیر و ضیغم چل بے سب دکھا کے اپنا دم خم چل بے
کیسے کیسے گھر اجڑے موت نے کھیل کتوں کے گاڑے موت نے
پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے
کوچ ہاں لے بے خبر ہونے کو ہے تائکے غفلت سحر ہونے کو ہے
باندھ لے تو شہ سفر ہونے کو ہے ختم ہر فرد و بشر ہونے کو ہے
آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور
زندگی اک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے